



خواتین آج کل خاندان ،کاروبار اور معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔خواتین کے کردار کو گھر ،بیٹور پر یا کاروبار میں دونوں جگہ کم نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ مرد اور خواتین دونوں کی بھرپور شرکت نرقی کے لئے بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سی خواتین روزی کمانے والی اور کاروباری ملک بن جاتی ہیں جو اپنے گھروں کے لئے آمدنی پیدا کرتی ہیں اور مالی فیصلے کرتی ہیں، وہ تیزی سے مالی طور پر آزاد ہوتی جارہی ہیں اور مالی فیصلے کرنے کے طریقہ کار میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔

کئی ذمہ داریوں کے بوجھ کے ساتھ اور اپنے بیاروں کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے، سرمایہ کاری کے ذریعے دولت بڑھانا ایک اہم سرگرمی بن جاتی ہے۔ خاتون کی نشیت سے، صحیح سرمایہ کاریوں کے ساتھ، آپ اپنی اور اپنے بیاروں کا مالی مستقبل محفوظ بناسکتی ہیں، جو بدلے میں، آپ کو قبل المدت اہداف حاصل کرنے میں بھی مدد کرے گا کیونکہ کوئی گاڑی خریدنا اور اس کے ساتھ ساتھ طویل المدت اہداف جیسے کہ ایک گھر خریدنا۔

اس مقصد کے لئے، ہاى الفى یولائف متعارف کر رہا ہے۔ ہنر کل ایڈریڈ انشورنس ایجنڈ انشورنس پلان جو ایک تیرہ اونسٹونٹ فنڈ ڈاکٹ اور باقاعدہ پریئمیم پلان جو ایک خود کار مصنف ڈاک کے منفر دالائف کینئر فائدے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو کہ شدید بیماری کے تحفظ کا فائدہ ہے جو انکی تحفظ شدہ خواتین کے مخصوص کینسر یا خواتین کی مخصوص بیماریا ریں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔

پروڈکٹ کا اظہار

پایک لبریری پروڈکٹ جس کے دو نمایاں حصہ ہیں یعنی، *پیرتھنڈ اور سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری کا جزیع سے منسلک فنڈ (خزیر) کے تحت اسامی سرمایہ جات کی کارکردگی سے مربوط ہے۔*

غور و فکر کا دورانیہ

آگاہی جتا روناہی کی سولی کے 14دن کے خوردہگر کے دورانے کے اندر ہائی راکیت منوع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ای الف یولائف کے کئی انجینل سامعہ جات کے سطح سے اعلیٰ خواہات معاہدہ کرکے کٹھ پوتی کی کل ادا ملگایا دہی کا مال ہوگے۔

سرمائے کی خوشنواہی کے لئے مواقع

پلان کے لئے ادا کئے گئے ہر پریئمیم ای الف یولائف کے داخلی سرمایہ کاری فنڈز میں سے کسی ایک میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اپنے سرمایہ کاری کے مقاصد کی بنیاد داخلی فنڈ کے انتخاب کا فیصلہ کل طور پر آپ کا ہوگا۔ آپ درج ذیل پیٹ سے منسلک فنڈز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں:

تمام فنڈز کی رسک پروفائیلنگ ان میں کی جانے والی سرمایہ کاری کے تحت کی گئی ہے۔

ای الف پیٹنڈو گروٹھ فنڈ

فنڈ کی قسم: پیٹنڈو۔ رسک پروفائل: درمیانی

متوازن سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے ساتھ سرمایہ کاری فنڈ ہے۔ اسکا ہدف کل وقتی مالیاتی اداروں میں مختا ط طریقے سے منتخب کردہ بلوچپ انویٹیز میں اور مختلف انڈکس ٹریڈرز اور نقد میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمائے میں مناسب فروغ اور مستحکم آمدنی کا حصول ہے۔

ای ایف یو کارنیڈ گروٹھ فنڈ:

فنڈ کی قسم: مٹی مارکٹ فنڈ۔ رسک پروفائل: کم

مستحکم آمدنی فراہم کرنے والا سرمایہ کاری فنڈ جس میں یہ ضمانت دی جاتی ہے کہ فنڈ کی بولی قیمت (بڈ پرائس) کبھی نیچے نہیں آئے گی۔ اسکا مقصد قبل المیعاد خرحدہ لینے والے مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمایہ کی مستحکم نشوونما ہے۔

ای ایف یو ایکریوٹھ فنڈ:

فنڈ کی قسم: ایکرییو۔ رسک پروفائل: زیادہ

زیادہ آمدنی فراہم کرنے والے مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری کے مقصد سے وضع کیا جانے والی ایک سرمایہ کاری فنڈ۔ اس کا مقصد مارکیٹ کی متوقع تیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمائے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔

ای ایف یو ایکم گروٹھ فنڈ

فنڈ کی قسم: ایکم فنڈ۔ رسک پروفائل: کم

ایک سرمایہ کاری فنڈ جس کا مقصد ٹیکیزر شیئر میں سرمایہ کاری کرکے مستحکم میں بروہوری حاصل کرنا ہے۔ اس کا ہدف کل وقتی مالیاتی اداروں اور خرحدہینے والی اعلیٰ معیار کی مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمائے کی مستحکم نشوونما ہے۔

ملیل فنڈ آپشن:

اس اختیار کے تحت، آپ پلان کے پیٹ سے منسلک دو فنڈز کے مرکب کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اپنی پالیسی کے تحت کل پریئمیم 10 فیصد مللٹیو ہوگا۔ اسکا مطلب ہے کہ فنڈز کو 10/20:90/30:80/40:70/50/60/50 میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

*ای ایف یو کارنیڈ گروٹھ فنڈ طے شدہ طور پر منتخب کیا جاتا

فوائد

ڈیجیٹل بینیفٹ پالیسی ہولڈر کی ناگہانی وفات کی صورت میں نامزد کردہ بہن بھئیشر یز ذیل میں درج ڈیجیٹھ بینیفٹ حاصل کریں گے:

بنیادی پلان کے سم اشورڈ کا مجموعہ یا باقاعدہ بنیادی پلان کے پریئمیم پر اطلاق شدہ یونٹس کی کیش ویلیو (جو بھی زیادہ ہو)

پلس

فنڈ ایکسلریشن پریئمیم کو اطلاق شدہ یونٹس کی کیش ویلیو

معموری بینیفٹ: پالیسی کی مدت کے اختتام پر، جب پالیسی ہولڈر کے بقید حیات ہو، قابل ادائیگی میچوریٹی بینیفٹ ہوگا:

بنیادی پلان پریئمیم کو شخص کئے گئے یونٹس کی کیش ویلیو

پلس

فنڈ ایکسلریشن پریئمیم کو اطلاق شدہ کیش ویلیو (اگر کوئی ہو)

ایکیٹیوڈ ڈیٹرم اشورنس:

کئی چلکدا ان فیچروں میں سے ایک جو پالیسی ہولڈر کو پہلے سے طے شدہ توسیع کردہ ٹرم ایٹورنس کی مدت کے لئے پریئمیم ادا کرنے کا

اور پالیسی کی بقا یا مدت کے لئے پریئمینئر ادا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ خاص طور سے اس وقت کارآمد ہے جب پالیسی ہولڈر پریئمینئر

کا سلسلہ جاری رکھنے کے قابل نہ ہو لیکن تحفظ چاہتا ہو۔ توسیع کردہ ٹرم ایٹورنس کا اختیار، کسی بھی تجدیدی تاریخ سے قبل 30 دن

کا نوٹس دیکر 10 مکمل سالوں کے باقاعدہ پریئمیم کی ادائیگی کے بعد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایک بار توسیع کردہ ٹرم ایٹورنس کا

انتخاب کر لیا جائے تو رانڈرز (اگر کوئی ہوں) ختم ہو جائیں گے۔

بلٹ ان لائف کینئر میبل بینیفٹ:

لائف کینئر میبل فائدہ آپ کو خواتین سے متعلق کسی بھی تحفظ شدہ شدید بیماری کے واقع ہونے کی صورت میں (بشمول خواتین

سے متعلق مخصوص کینسرز)، ایک یکمشت رقم فراہم کرتا

اختیاری فوائد:

ایکیٹیوٹیل ڈیجیٹ بینیفٹ:*

اگر وفات کسی حادثے کے باعث پیش آتی ہے تو یہ فائدہ ایک اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے۔

ایکیٹیوٹیل ڈیجیٹل ایڈڈ سیٹلٹی بینیفٹ:

حادثاتی وفات یا معذوری کی صورت میں یہ رانڈر ایک اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے۔

ایکیٹیوٹیل ڈیجیٹل ایڈڈ سیٹلٹی بینیفٹ پلس:

حادثاتی وفات یا (مستقل اور مکمل) معذوری کی صورت میں جو آپ کو مستقل طور پر معذور کر دے یہ رانڈر ایک اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے۔

ایڈیٹیل ڈیٹرم اشورنس:

بیمہ داری وفات کی صورت میں یہ رانڈر بنیادی پلان کے زیر بیمہ کا 50 فیصد سے 200 فیصد تک ایک اضافی رقم میا کر کے

زندگی کے تحفظ کے درجے کو بڑھاتا ہے۔

جلی ایٹم بینیفٹ:

یہ فائدہ پالیسی کی مدت کے دوران پالیسی کنندہ (بیمہ دار فرد) کی اچانک وفات کی صورت میں یہ پلان اہل خانہ کو ایک ماہانہ آمدنی کی ادائیگی یقینی بناتا ہے۔

ریٹرن اف پریئمیم بینیفٹ:

پریئمیم کی واپسی کا رانڈر ایک منفرد فائدہ ہے جو ای ایف یولائف کے متوقع صارفین کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ رانڈر آپ کو ایک

اضافی فائدہ فراہم کر کے آپ کے تحفظ کو بڑھاتا ہے۔ بیمہ داری ناگہانی وفات کی صورت میں بہن بھئیشر کی کو صرف وفات فائدہ

حاصل ہوگا بلکہ پریئمیم کی واپسی کے رانڈر کے لئے ادا کئے گئے پریئمیم کو نکال کر ادا شدہ پریئمیم کی کل رقم حاصل کر سکتے گا۔

ویڈراف پریئمیم:

اگر بیمہ دار کسی بیماری یا حادثے کے باعث 6 ماہ یا اس سے زیادہ اپنی ملازمت یا کوئی پیشہ اختیار کرنے سے بیقتا ضر ہو تو پریئمیم کی رقم ای ایف یولائف ادا کرے گی۔

*ایک وقت میں تین ایکسپڈ اہل بینیفٹ میں سے ایک کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔

یونٹ ایڈکیشن:

سرمایہ کاری کو شخص کئے جانے والے بنیادی پلان کا تناسب ذیل میں دی گئی میبل میں دکھایا گیا ہے:

پالیسی سال	یونٹ ایڈکیشن	ایڈکیشن کی چارجز*
1	57.5 فیصد	42.5 فیصد
2	80 فیصد	20 فیصد
3	90 فیصد	10 فیصد
4	100 فیصد	0 فیصد
6	103 فیصد	0 فیصد
11	105 فیصد	0 فیصد

* اوپر درج میبل کے مطابق ہر سال ادا کئے گئے پریئمیم میں جسے تخصیص کی فیس منہا ہ کی جائے گی اور بقا یا رقم کا ونٹ ویلیو کو شخص کی جائے گی

اضافی اختیاری پریئمیم 100 فیصد منتخب شدہ فنڈ کے یونٹس کی خریداری کے لئے مختص کیا جاتا ہے۔

سم اشورڈ

یہ بیمہ داری ناگہانی وفات کی صورت قابل ادائیگی یقینی رقم ہے۔ یہ بیمہ دار کے منتخب کردہ پریکشن ملیمبل کو باقاعدہ بنیادی پلان کے پریئمیم ضرب دے کر حاصل رقم کے مساوی ہوتا ہے۔ پریکیشن ملٹی پل پلان کے آغاز پرمعر کے حدوں سے مشروط ہے۔ مزید تفصیلات کے لئے درج ذیل میبل ملاحظہ کیجئے:

عمر	پروٹکشن ملیلٹی
18 سے 35 سال	5 سے 90
36 سے 40 سال	5 سے 70
41 سے 45 سال	5 سے 50
46 سے 49 سال	5 سے 35
50 سے 55 سال	5 سے (70- عمر)



ایک منصوبہ جو آپ کو مالی آزادی اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔



ای ایف یو بہتر کل لیڈرز
انشورنس اینڈ انوسٹمنٹ پلان
(لیڈرز سیکونڈری پلان)

تکلیف

کسی بھی غیر متوقع واقعے کے صورت میں، آپ اپنے کلیم کی اطلاع کسی حبیب میٹرو پولیٹن بینک کی شاخ میں جا کر، ای ایف یو ہیڈ آفس جا کر یا ملک میں ہماری کسی بھی شاخ میں جا کر دے سکتے ہیں۔ کلیم پر فوری عمل درآمد کے لئے، آپ ہمارے کال سینٹر 111-338-111 پر فون کر کے پہنچ سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر جا کر، اطلاقی فارم بھر سکتے ہیں اور ان میں cod@efulife.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے اگلے اقدامات کے لئے رابطہ کیا جائے گا۔

انتخاب

- اس پروڈکٹ کی بیمہ کاری ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹیڈ کی طرف سے کی گئی ہے۔ حبیب میٹرو پولیٹن بینک لمیٹیڈ یا اس سے وابستہ کسی بھی ادارے کی طرف سے ضمانت شدہ یا بیمہ کی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی یہ حبیب میٹرو پولیٹن بینک لمیٹیڈ کی پروڈکٹ ہے۔ بیمہ دار صارفین یا بینیفیٹریز کے کلیمز کے تصفیے کے لئے ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹیڈ ذمہ دار ہوگی۔
- حبیب میٹرو پولیٹن بینک لمیٹیڈ صرف اس پروڈکٹ کیلئے کارپوریٹ انشورنس ایجنٹ/تعمیم کار کی حیثیت کام کر رہا ہے اور کسی بھی طور کسی بھی فرد کو، بشمول لیکن ان تک ہی محدود ہیں، صارفین، بینیفیٹریز یا کسی تیسرے فریق، ذمہ دار ہے اور نہ ہوگا۔
- مختلف شدہ فنڈز میں سرمایہ کاری کا خطرہ پالیسی کنندہ (بیمہ دار فرو) برداشت کرے گا اور پالیسی کے اصل اختتام پر یا دستبرداری کی مالیتیں دئے گئے اعداد و شمار سے کم کیلئے زیادہ ہو سکتی ہیں۔
- فنڈز کی سابقہ کارکردگی خاص طور پر مستقبل کی کارکردگی کی گائیڈ نہیں ہے۔ کوئی بھی پیشین گوئی ضروری طور پر فنڈز کی مستقبل کی یا ممکنہ کارکردگی کی نشاندہی نہیں کرتی اور نہ ہی ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹیڈ اور نہ ہی حبیب میٹرو پولیٹن بینک لمیٹیڈ اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری لیں گے۔
- فوائد کی ایک انفرادی تشریح ہمارے کنسلٹنٹ کی طرف سے آپ کو فراہم کی جائے گی۔ ازراہ کم مختلف شرائط و ضوابط کی تفصیلی وضاحت حاصل کرنے کے لئے پالیسی دستاویزات کا مطالعہ کریں۔
- سروس اخراجات اور ٹیکسیز کا اطلاق بینک کے شیڈول آف چارجز اور متعلقہ اتھارٹیوں کی طرف سے مقررہ ٹیکس قوانین کے مطابق ہوگا۔
- پروڈکٹ کا یہ کتنا بچہ صرف پروڈکٹ کی خصوصیات اور فوائد کا ایک عمومی جائزہ پیش کرتا ہے۔ معاہدہ کس طور پر کام کرتا ہے اس کی تفصیلات شرکت کنندہ رکنیت دستاویزات میں دی گئی ہیں۔
- پروڈکٹ کا یہ کتنا بچہ صرف پروڈکٹ کی خصوصیات اور فوائد کا ایک عمومی جائزہ پیش کرتا ہے۔ معاہدہ کس طور پر کام کرتا ہے اس کی تفصیلات شرکت کنندہ رکنیت دستاویزات میں دی گئی ہیں۔
- اگر آپ کو اپنی پالیسی سے متعلق کوئی شکایت ہو تو آپ کسی بھی حبیب میٹرو بینک کی برانچ میں جاسکتے ہیں یا آپ ای ایف یو لائف انشورنس 111-EFU-111 (021) 111-338-111 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

حبیب میٹرو بینک

اسپینسر بلڈنگ، آئی آئی چندر نگر روڈ، کراچی، پاکستان

یو اے این: (42242) 111-1-HABIB

ویب سائٹ: www.habibmetro.com

ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹیڈ

ای ایف یو لائف باؤس، پلاٹ نمبر 112، 8 ویں ایسٹ اسٹریٹ،

فیر 1، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی، کراچی، پاکستان

فون: 111-EFU-111 (021) 111-338-111،

فیکس: 34535079 (021)

فنڈ ایکسچینج پر بیمہ:

اگر آپ کے پاس پلان کی مدت کے دوران کسی بھی وقت اضافی نقد رقم موجود ہو تو اپنی نقد اقدار (کیش ویلیو کو بڑھانے کے لئے وہ پلان میں سرمایہ کاری کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے۔ پلان میں کی گئی ان اضافی ادا کیوں کو اضافی اختیار پر بیمہ (فنڈ ایکسچینج پر بیمہ) کہتے ہیں۔ آپ یہ ادا کیوں پالیسی کے نافذ العمل ہوتے ہوئے کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ کم از کم فنڈ ایکسچینج پر بیمہ 24,000 روپے ہے۔

جزوی دستبرداری:

اپنی پالیسی سے دستبردار ہونے بغیر، آپ کوئی اچانک ضرورت پوری کرنے کے لئے اپنی کیش ویلیو سے کوئی بھی رقم نکلا سکتے ہیں۔ جزوی دستبرداری کی اجازت پلان میں 24,000 روپے کی رقم موجود رہنے سے مشروط ہے۔

مکمل دستبرداری:

دوسرے سال کا پر بیمہ ادا کرنے کے اور پالیسی کے دہ سال (24 مہینے) پورے ہونے کے بعد آپ اپنے پلان سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ دستبرداری کے وقت، آپ کو آپ کے فنڈ کی کل نقد قدر ادا کی جائے گی۔ البتہ، شروع کے پالیسی سالوں میں دستبرداری کم تر کیش ویلیو کا نتیجہ ثابت ہو سکتی ہے۔

ایڈکسیشن (افراط زر) کا اختیار:

یہ اختیار آپ کو ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے یہ جان کر کہ آپ کے پلان سے دستیاب فوائد کی خود کار طور پر قطع نظر آپ کی صحت کے ہر سال افراط زر کے مطابق تجدید ہو جائے گی۔

ایک بار جب آپ یہ اختیار منتخب کرتے ہیں تو اس انتخاب کی صورت میں آپ کا پر بیمہ ہر سال پچھلے سال کے پر بیمہ کے 5 فیصد کے حساب سے بڑھے گا، اور اضافی رامنڈرز اگر کوئی ہوں وہ بھی بیمہ شرائط سے مشروط اسی تنا سب سے بڑھیں گے۔ البتہ آپ بیمہ زکوٰۃ بڑھانے بغیر صرف پر بیمہ بڑھانے کا اختیار منتخب کر سکتے ہیں۔

بیمہ زکوٰۃ ایکسیشن کی شرح کے مطابق اضافے کا آپشن آپ 55 سال کی عمر تک حاصل کر سکتے ہیں، بشرطیکہ آپ ابتدائی طور پر طے کردہ شرائط کے مطابق قبول کئے گئے ہوں۔

عمومی طور پر پوچھے جانے والے سوالات:

کون درخواست کر سکتا ہے اور پلان کی حدود کیا ہے؟

تحفظ کی کم از کم مدت 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال ہے جو بیچوٹی پر زیادہ سے زیادہ 65 سال کی عمر سے مشروط ہے۔ یہ پلان تمام افراد کے لیے دستیاب جن کی عمر 18 سے 55 کے درمیان ہو۔

کم از کم پر بیمہ کی ضرورت کیا ہے؟

کم از کم سالانہ بنیادی پلان کا پر بیمہ 24,000 روپے ہے جس کی کوئی زیادہ سے زیادہ حد نہیں۔ تاہم، پر بیمہ سلائے، ششماہی، سہ ماہی اور ماہانہ موڈ کے اختیارات کے ساتھ ادا کیا جاسکتا ہے۔

اخراجات:

پارٹنر	ریٹ/پاکستان روپے میں
انتقالی اخراجات (ایڈمیشن چارج)	90 روپے ماہانہ
پرائیویٹ ڈیٹیکشن (سریعہ)	تھیں شدہ ڈیٹا اور اضافی فنڈ پر بیمہ کا فیصد
سرمایہ کاری اخراجات (فونکسٹ) کچھ	فنڈز کا 0.125 فیصد ماہانہ
چارج	
مورٹلٹی چارج (بیمہ کی مدت)	ہر سال عمر پر مشتمل جرہ جات کے لحاظ سے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے مورٹلٹی چارج، 10 ماہ سے 100 روپے تک کے مختلف حصے حاصل کیا جاتا ہے۔ البتہ جب تک دوا سم کوڑے نہ جائے تو مورٹلٹی کی مدد کوئی رقم اضافہ کی جائے گی
فنڈز پر کرنے کی فیس	500 روپے
دستبرداری کی فیس	500 روپے
دستبرداری اخراجات	100 فیصد پچھلے سال کے لئے
تعمیم کی فیس	اپنی مرضی کی مدت کی تعمیم کی فیس